

IDIOMS

S.No.	IDIOMS	
1	A far cry.	طویل فاصلہ
2	A broken reed.	نا قابل اعتبار شخص
3	A gift of the gab.	تقریر کی مہارت
4	A walk over.	بالفاظ فتح
5	A storm in the tea cup.	سیر کی بات پر بڑا زور
6	A house of cards.	نا پایدار چیز
7	A wild goose chase.	نا قابل حصول چیز کا تلاش
8	A fly in the ointment.	
9	Head - over - heels	جلدی سے
10	Under a cloud.	بڑے حالات میں
11	In one's good books.	کسی کی نظر میں اچھا ہونا
12	A black sheep.	بدکردار شخص
13	A maiden speech.	پہلی تقریر
14	A red-letter day.	فرحت کا دن
15	A white elephant.	میتھی لیکن سے فائدہ چیز
16	A wet blanket.	دوسروں کو یہ حوصلہ کسر کرنے والا
17	Finishing - touches.	آخری مراحل
18	In so far as.	جہاں تک
19	With a high head.	خود مدلی سے
20	An eye-wash.	دھونے
21	Hue and cry.	شہور و غوغا
22	Plain sailing.	آسان کام
23	Check by jowl.	ساتھ ساتھ
24	Root and branch.	پورے طور پر
25	On the horns of a dilemma.	دو دشواریوں میں
26	A hard nut to crack	شکل کا کام
27	Apple of one's eyes.	بہت پیارا
28	In apple - pie order.	نظم سے ترتیب سے
29	A fish out of water.	بے جگہ شخص
30	A turn coat.	جاری نہایت بد لنگہ والا شخص
31	A red rag to the bull.	غصہ کی وجہ
32	A dark horse.	چھپا ہوا ستم
33	Neck - or - nothing.	فقت یا تختہ
34	A blue eyed boy.	لوہ لڑ چیتا
35	In the wake of.	کے بعد آنا
36	In the offing.	ظاہر ہونے کے قریب
37	In the teeth of.	کے باوجود
38	With the grain of salt.	کسی قدر شک کے ساتھ
39	A bed of roses.	بھولوں کی سیج
40	At one's beck and call.	کے اشارے پر
41	A square peg in a round hole.	ایسا شخص جو اپنے مواقع مقام
42	At one's fingers end.	قریب ہی ہونا
43	A jack of all trades.	فقور اکثر ہر کام جاننے والا آدمی
44	All moon shine.	صرف دکھانا
45	A hard pill to swallow.	سخت خبر
46	A fair weather friend.	مطلبی دوست

a bolt from the blue.	بلور سے ناگہانی
A bore board.	نا قابل یقین
A bone of contention.	جوئے لڑنے کی وجہ
Live wire.	جو متعلق ہو زندگی والے شخص
Mix blessing.	ایسی چیزیں جن کا فائدہ ہی ہو نقصان
Time - Server.	نوعانے کے ساتھ چلنے والا
Against time.	بہت تیزی سے
A puffed pipe.	ڈیا گڑھا
Blue stocking.	ادنیٰ ذوق رکھنے والی عورت
A hat trick.	تین سٹلر ماس یا کامیا بیاں
A fool's paradise.	الحقرا کی جدت
lock stock and Barrie.	مکمل سامان کے ساتھ
Once in a blue moon.	شماذو نادرا
Under cover of.	کے بھیس میں
A sugar daddy.	بوجھنا جوانوں کو عورت کو خوجھنا
Hand to mouth.	جو کھا جانا کھا جانا
In a hot soup.	مشغولت میں
A close shave.	بال بال بچنا
A fool's errand.	بے سود کام
A stumbling block.	رکاوٹ
Armed to the teeth.	تکوری طرح مسلح
Hand in glove with.	مشیر و مشیر ہونا
After one's own heart.	اپنی پسند کے مطابق
A hair's breadth.	بہت قریب سے
A tower of strength.	تھپارا
Cold comfort.	خفہ بھاری
A brown study.	دن میں خواب
A kettle of fish.	انتشار کی حالت
A stocking horse.	اصل سے قطعاً چھپانے والا
A passing fancy.	جھیل گزراں
A chapter of accidents.	مہبتوں بھری کہانی
With an iron hand.	سختی سے
A queer fish.	مجھب شخص
Square deal.	انصاف سلوک
Oily tongue.	خوشنما صدی زبان
Royal road.	آسان راستہ
Last straw.	آخری ترنما
A drug on the market.	ایسی چیز جسے کم لوگ خریدیں
A feather in one's cap.	شہرت کا باعث کارنامہ
On pins and needles.	پیرا پیرا کی اور انتظار میں
A skeleton in the cupboard.	بدنام فرد یا چیز اور خزانہ کی لاش
At the end of one's tether.	غیر کی آخری حد تک
The corner - stone.	کونجی پتھار
A brain wave.	اچانک آنے والا اچھا خیال
Flesh and blood.	رشتہ دار
Out at elbows.	غریب کی حالت
On the Anvil.	زیر جھٹکا

7	a bolt from the blue.	بلای ناگہانی
8	A bore board.	ناقابل یقین
9	A bone of contention.	جھگڑنے کی وجہ
0	Live wire.	جو شش و پنجہ والا شخص ہے
1	Mix blessing.	ایسی چیزیں جو کچھ نیک اور کچھ برا ہیں
2	Time - Server.	نوعانے کے ساتھ چلنے والا
3	Against time.	بہت تیزی سے
4	A puffed pipe.	ڈھکا ہوا
5	Blue stocking.	اچھے ذوق رکھنے والی عورت
6	A hat trick.	تین سٹرنس کا کام یا کھانا
7	A fool's paradise.	الحقراں کی جنت
8	lock stock and Barrie.	مکمل سامان کے ساتھ
9	Once in a blue moon.	بہت نادر
0	Under cover of.	کے کہیں میں
1	A sugar daddy.	پولہا جو نوجوان عورت کو خزانہ
2	Hand to mouth.	جو کھا جانا کھا جانا
3	In a hot soup.	مشغولیت میں
4	A close shave.	بال بال بچنا
5	A fool's errand.	بے سود کام
6	A stumbling block.	رکاوٹ
7	Armed to the teeth.	تکوری طرح مسلح
8	Hand in glove with.	شیر و شیر ہونا
9	After one's own heart.	اپنی پسند کے مطابق
0	A hair's breadth.	بہت قریب سے
1	A tower of strength.	ستھارا
2	Cold comfort.	خفہ پھر دی
3	A brown study.	دماغ میں جواب
4	A kettle of fish.	انتشار کی حالت
5	A stocking horse.	اصل سے ہٹ چکا ہوا
6	A passing fancy.	ضالی گزالی
7	A chapter of accidents.	مہبتوں بھری کہانی
8	With an iron hand.	سختی سے
9	A queer fish.	بجیب شخص
0	Square deal.	اچھا سلوک
1	Oily tongue.	خوشنماہدی زبان
2	Royal road.	آسان راستہ
3	Last straw.	آخری ترزا
4	A drug on the market.	ایسی چیز جسے کم لوگ خریدیں
5	A feather in one's cap.	شہرت کا باعث یا کامیابی
6	On pins and needles.	پیر پیرانی اور انتظار میں
7	A skeleton in the cupboard.	بدنام فرد یا چیز اور خزانہ
8	At the end of one's tether.	مدد کی آخری حد تک
9	The corner - stone.	کونج پتھار
0	A brain wave.	اچانک آنے والا چھوٹا خیال
1	Flesh and blood.	رشتہ دار
2	Out at elbows.	غریب کی حالت
3	On the Anvil.	زیر محنت

94	In full swing.	(200)	لوہے سے چوڑا ہونا
95	Herculean task.		بہت مشکل کام
96	Democle's sword.		بہتر ہر ہندوستان کا ہر
97	Beneath one's dignity.		سنان سے خلاف
98	A laughing stock.		وہ چیز یا آدمی جس پر ہر شخص ہنسے
99	A bird's eye view.		سرخسری جائزہ
100	Over head and ears.		لوہی طرح لڑائی
101	Call a spade a spade.		صاف صاف بات کرنا
102	Come off with colours.		کا پھال حاصل کرنا
103	Curry favour.		خوشنما ہر سے دوستی حاصل کرنا
104	Give a bit of one's mind.		چوڑا کرنا
105	Go on a spree		سیر و آفرینج ہو جانا
106	Go through fire and water.		مشکلات سے دوامت کرنا
107	To great lengths.		بہت کوشش کرنا
108	Hold a candle to.		مقابلے کے قابل ہونا
109	Hold water.		سوتل ہونا
110	Hit bellow the belt.		خلاف معیار طرہ عزیز ہونا
111	Have an axe to grind.		ذاتی مقصد ہونا
112	Keep body and soul together.		جسم و جان یکجا رکھنا
113	Look daggers at.		آنکھ سے آنکھ دیکھنا
114	Put out of countenance.		شرمندہ کر دینا
115	Play with fire.		آگ سے کھیلنا
116	Pay of old score.		پراثر بدترے چکانا
117	Play one's trump card.		نہر دار چال چلانا
118	Run to seed.		بنا ہونا
119	Run rampant.		بکھل کر ماضی ہو جانا
120	Rest on one's laurels.		کا پھال پر غرور کرنا
121	Stick to the point.		سو وقت تک نہ ہٹنا
122	Show the white feather.		بزدلی دکھانا
123	Show wild oats.		حوالی میں عیث کرنا
124	Take a man at his words.		بارت پر یقین کرنا
125	Throw water upon.		پانی پھیر دینا
126	Throw up the spurge.		سوقنا ڈال دینا
127	Lick the dust.		ذارت ہونا
128	To be taken up with.		مغروب ہونا
129	To be in the doldrums.		مخم کی حالت میں
130	Be in one's elements.		اپنے مضمون کا چول میں ہونا
131	To bring down the house.		ایوں کر ہنسا کر لینا
132	Fall a prey to.		تھوڑا کر ہونا
133	Take by the storm.		جبراً کر دینا
134	Be on tenterhooks.		انتظار کی کیفیت میں
135	Be at one's own trumpet.		اپنی جواہر ہونا
136	To die in harness		خوف اور شرم سے ہونے
137	To steer clear of.		بچ کر لینا
138	Be in the same boat.		ایک ہی حالت میں ہونا
139	Rest on one's oars.		مخمت سے لوہا رام کرنا
140	Keep one's head above water.		سوز سے بچنا

141	Go with the stream.		زمانے کے ساتھ چلنا
142	Give a wide berth.	(201)	دور رکھنا
143	Pour oil on troubled water.		معاذرت کو گھڑنے والا کر دینا
144	Tide over.		غالب آنا
145	Take into one's head.		صفا کر لینا
146	Face the music.		تعمیر کا سامنا کرنا
147	Turn up one's nose at.		حقارت سے منہ دیکھنا
148	Pay through the nose.		نفع مانگنا
149	Find fault with.		نقص چینی کرنا
150	Keep a stiff upper lip.		صبر کا مذاکرہ کرنا
151	Give a leg - up.		سہارا دینا
152	Throw dust in the eyes of.		دھوکا دینا
153	Poke one's nose.		داخل دینا
154	Pull a long face.		غمزوہ بن کر جانا
155	Turn a deaf ear to.		توجہ نہ دینا
156	Laugh in one's sleeves.		چلے چلے ہنسنا
157	Put the cart before the horns.		اٹلے گا تم کرنا
158	Take the bull by the horns.		مشکل سے کا سامنا کرنا
159	Let the cat out of the bag.		راز افشا کرنا
160	Feather one's nest.		نا جائز ذرائع سے کچھ کرنا
161	Fish in troubled water.		دوسروں کی بے حیثیت سے فائدہ اٹھانا
162	Look a gift horse in the mouth.		خیر سے کچھ نہ مانا
163	Cast pearls before the swine.		بیوقوف کو نصیحت کرنا
164	Put back the clock		سافنی کے باقی کرنا
165	Burn the candle at both ends		بہت خرچ کرنا
166	End in smoke.		ناختم ہو جانا
167	Nip in the bud.		ابتداء میں ہی ختم کر دینا
168	Split hairs.		بال کی کھال اٹھانا
169	Read between lines.		تعمیر کا ذوق صلاب سمجھ لینا
170	Eat the humble pie.		ختم ہونے والا
171	Fight shy of.		کھینا
172	Eat one's words.		الفاظ و اسیر لینا
173	Marshal the facts.		حقائق کو مستقیم کرنا
174	Get into the hot water.		مشکل سے میں کھو جانا
175	Bring home to.		ذہن نشین کرنا
176	Take time by the forelock.		صوفی سے فائدہ اٹھانا
177	Turn turtle.		الٹا جانا
178	Come down upon.		خوب کیا دینا
179	Hold one's own.		تعمیرت سے تعلیم لینا
180	Keep at open house.		معاذرت کو تیار رکھنا
181	Take french leave.		بغیر اطلاع چل جانا
182	To beat about the bush.		ادھر ادھر کی بات کرنا
183	Go to the wall.		پہلے ڈھیل دیا جانا
184	Pull the strings.		دوسروں کو اپنے اختیار سے چلانا
185	Play ducks and drakes.		سب سے متعلق کرنا
186	Play second fiddle.		پاؤں میں پاؤں چلانا
187	Lay a Blame at a man's door.		الزام دوسروں پر ڈال دینا

188	To protect from.		محفوظ رکھنا
189	To provide against.		مہیا کرنا
190	To speak eloquently.	(202)	موتق بیونا
191	To flee in terror.		موتق سے بھاگ جانا
192	A cock and a bull story.		خوفنا
193	To hit the nail on the head.		میلن کھرت، پہانی
194	To die a dog's death.		عام جھج وقت بیرون کرنا
195	To give with time.		کتنی موت، موت
196	To caution against.		زیادت سے ساھو چلنا
197	To cease from.		مندی کرنا
198	To converse with.		بازر بیونا
199	To come into the mind.		آفتا کرنا
200	A slur on the fair name.		جی میں کرنا
201	To go beyond the limit.		کانک کا کار
202	They raise loud wailing.		حد سے بیونا
203	To grace by one's presence.		حد سے بیونا
204	From beginning to end.		ایوقن کھننا
205	To keep up one's good name.		عام وقت
206	To turn in bed.		نام باقی رہنا
207	To be inconsistent.		کروز کا بلانا
208	Chinese puzzle.		کروڑ کی طرح رنڈا بلانا
209	To reconcile to.		کوز کھنڈ
210	To recover from.		قبول کر لینا
211	To rejoice at.		صوت سے بیونا
212	To rely on.		جوتق کھننا
213	To rest with.		اعتبار کرنا
214	To restore.		اختیار میں بیونا
215	Send for.		وال کرنا
216	To send of.		کھنا
217	To stand by.		بھیننا
218	To stink of.		ساھو دینا
219	To plunge into.		بدلو دینا
220	To ponder over.		غور رکھنا
221	To exult at.		غور کرنا
222	To exceed in.		خوتق میں بیونا
223	Indebted to.		سہقت سے جانا
224	To intrigue with.		مختون میں بیونا
225	To persuade into.		سازستن کرنا
226	To persist in.		تغیب دینا
227	To pry into.		جو کرنا
228	To qualify for.		کانک کھننا
229	Bygone days.		بشرط طور پر کرنا
230	Patient wait.		کمزور سے بیونا
231	To keep the pot boiling.		عصر آرزو کھننا
232	Without reason.		غور سے بیونا
233	God's truth.		غور سے بیونا
234	Let sleeping dogs lie.		خوتق میں بیونا

(203)

35	To cling to.		تعلقنا
36	To coincide with.		مصادفتنا
37	To debar from		برکننا
38	To deduce from.		نتیجہ اخذ کرنا

141	To enquire into.	تفتیش کرنا
142	To hanker after.	خواستہ کرنا
143	To hurl at.	پھینکا
144	To lodge at.	رہنا
145	To long for.	آرزو کرنا
146	To play on	ساز بجانا
147	To plead for.	درخواست کرنا
148	To preside over.	صدرت کرنا
149	To prevail upon.	راضی ہونا
150	Seasoned with spices	مہلک ذائقہ
151	An interpreter of dreams.	تفسیرنا خواہے
152	To dance to one's tune.	آہستگی سے گانے کے عمل کرنا
153	Root and drench.	مکمل طور پر
154	In black and white.	خبر سچی اور سچ
155	To give the cold shoulder.	سرد مہربانی سے پیش آنا
156	To ride shank's mare.	بیداری چلانا
157	To brag of.	تکبر سے بھانپنا
158	To confront with	رو بہ رو ہونا
159	To connive at.	چشم پوشی کرنا
160	To give a faint light.	علم آنا
161	Room for objection.	باہت اعتراض
162	To be deadly intoxicated.	نشہ میں چور
163	To burn with jealousy.	چھان بین سے سانس لو لینا
164	To turn pale.	زرد اور جانا
165	Running of nose.	ناک بہنا
166	To transfer the civil spirit from the sick.	مدد سے ہٹانا
167	To make a truce.	صلح کرنا
168	To save the tide.	موقع سے فائدہ اٹھانا
169	To pay deaf ears.	گالے بند کرنا
170	To reckon on.	اوصاف کرنا
171	To recoil from.	پہلے ہٹنا
172	To remain to.	وہلے ہی رہنا
173	To remonstrate with.	احتجاج کرنا
174	To resort to.	سہارا لینا
175	To respond to.	جواب دینا
176	To search of.	تلاش کرنا
177	To seek after.	دھونڈنے کی کوشش کرنا
178	To stand against.	صفا لہ کرنا
179	To stare at.	گھبرانا
180	To entrust to.	سونپنا
181	To exalt to.	مدد اڑ کرنا
182	To implicate in.	توغلسانا
183	To incite to.	بھڑکانا
184	To militate against.	عزائم کرنا
185	To occur to.	واقف ہونا
186	To play on.	ناجانہ فائدہ اٹھانا
187	To plot against.	خون بجانا

	Merits & De Merits.
10. Barking dogs seldom bite.	جو کچھ بولتا ہے وہ سب کچھ نہیں
Birds of a feather flock together	نیک لوگوں کا ہوا جھونکا جھونکا
A drowning man catches at a straw.	دوبنے والے کو تنکے کا سہارا
Driving shower of rain.	بارش کی بھونچھار ہونا
No rose without thorns.	جہاں پھول وہاں کانٹا
Small wit great boast.	چھوٹا عقلمند بڑی بات
In the capacity of.	مقدوریت
Union is strength.	اتفاق میں برکت ہے
What never happen.	الہی ہوتی ہونا
Blood is thicker than water.	اپنا اپنا عزیز عزیز
Perplexed in mind.	دل پریشان ہونا
A mountain in labour and mountain the result.	کھوڑا پہاڑ نکلا تو پہاڑ
Go to hell.	جہنم میں جاؤ
Out of sort.	طبعیت میں خراب ہونا
To leave in the Lurch.	محبت میں سناٹا چھوڑنا
A guilty conscious need no accuser.	چور کی ذمہ داری میں تنقید
A little bird told me.	کسی نے تو بتایا ہے
On account of.	کی وجہ سے
By leaps and sounds.	دن دن گتے ترقی کرنا
By virtue.	کے ذریعے سے
Rise and shine.	جاگ جاؤ
A nine days wonder.	چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات
Evil gotten evil spent.	بغیر سیوہ سیوہ نہیں ملتا
Haste makes wastes.	جراہتانی کا کام خراب
Habits take long to depart.	عادات بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہیں
To disclose a secret.	راز افشا کرنا
A blind man is no longer collar four	اندھا ایسا جانے بسنت کی بہار
To brunt into laughter's.	باغ میں کھلنا
Happy in the wooing that's not long a doming.	جیت جیتنے پر پیسہ پیسہ
Ring leader.	وہی کی جیٹ
Crooked by nature is never made straight by education.	انہوں کے جوہت باتوں سے سیدھے بناتے
Out of the frying pan into the fire.	آسمان سے پھرا
To carry the day.	بدر ایس مارنا
A bad name is never worse than bad deeds.	برا چھاپنا نام بڑا
What a never.	انہونی ہونا
On top of law words.	بہت خوش ہونا
Part and parcel.	جزوئی کا حصہ
What's biting you.	تیس کیا ہو رہا ہے
In full swing.	بڑے زور سے
Ups and down.	انٹھب و خراب
Heart and soul.	دل لگا کر
A self- Conceited.	خود پر دست سے بھول
To dig one's own grave.	اپنے پاؤں پر کھلیاڑی مارنا
may God bless you.	خداوند کریم سے جزا دے
To satisfy one's longing.	چاؤ پورا کرنا
Well bred.	اچھے نسل

47	To give up.	تھوڑا دینا منکر کیل سے گنہگار کرنا
48	Hand to mouth.	چار ہاندی نقصان کا سبب ہے
49	Better crave than grave.	کیا سوچ کر رہے ہو
50	A penny for your thoughts.	سنان کو آج نہیں
51	Innocent have nothing to fear.	بوند بوند نہ گھٹا ہوتا ہے
52	Many a little makes a mickle.	غلط راہ پر گھڑانا
53	To lead on the wrong track.	یہ جہاں اب سے خدا ہے
54	In every country the sun rises in the morning.	کدیر بھیل
55	False Menace.	دوسری کو نصیحت خود میرا غیور
56	Physician heal thyself.	کسی کی خاطر
57	For the sake of.	چار دن کی چاندنی پھر انھی رات
58	Beauty is but short lived.	اگر خدا کو منظور ہو
59	If God the west high willeth.	دل و جان سے
60	With all own heart.	عشق اور شکر چھپائے نہیں چھپتے
61	Love and red rose can't be hide.	تم نے اپنی بات لپک دی
62	You have made your point.	لاٹھ آدی
63	Arms and the man.	خوف بیوں والا
64	Man of letters.	بیمار کا شہر سے ہونا
65	To turn the corner.	خوبی پلاؤ پکانا
66	To build castle in the air.	آخر کار
67	In the long run.	بھی گنہگار
68	Off and on.	جو چاہے کرو
69	Be my guest.	دور دور سے
70	For and wide.	آہستہ آہستہ
71	By and by.	تھوڑی بہانی
72	A crack and Bull story.	بغیر بیوہ میوہ نہیں ملتا
73	Lio pains no gain.	

PROVERBS / PHRASES

(214)

S.No.	PROVERBS / PHRASES	Urdu Translation
1	Money makes the mares go.	دام برنا شے کام چھا آتے جو رکھی نہ کوئی پی سہی
2	Something is better than nothing.	بہتر ہے کچھ اس سے بھلا
3	All is well that ends well.	پہرے سے خرابی سے خوبیوں سے کوئی چیز بوزہ نہ لگے کہ
4	As far as I can see.	جس قدر نظر انداز کیا
5	Society moulds a man.	معاشرے سے بنی ہوئی
6	The nearer the church the father from God.	جہاں بھری ہو وہاں لوگ آتے ہیں
7	To overwhelmed.	تیار کر دینا
8	Where bees are, there's honey.	جہاں کاہنوں کو سا بچھے
9	To lay a foundation.	ڈھیر لگانا ایسے کی مسجد
10	Every one knows his business well.	ہر ایک کا پتا ہوئی
11	To have one's own mosque.	مکان کے زمانے میں تیرا مسجد
12	True to one's word.	پونہوں کی دلالتی میں منگھ ٹالا
13	An uninvited guest is seldom welcome.	قالبانا
14	Evil pursuits bring evil repute.	جنتہ منہ اتنی باتیں
15	To get over.	آزاد ہو کر رہنا
16	As many mouths so many opinions.	آن کے مہرے کل دوسرے جان
17	To foam with fury.	بھولوں کا بستر
18	To look after.	پر تھی سے
19	The deaths are forgotten soon.	نہ ڈھنکے ہوئی
20	A bed of roses.	ڈھیر رہنا
21	In cold blood.	پہرے سے لے کر
22	At daggers drawn.	ادھر ادھر کی مارنا / باتیں کرنا
23	At arms length.	بہتیل پر رہی ہیں جنتی
24	Chair up.	جس کا لٹی اس کی بھلیوں
25	Beet about the bush.	دھونے کا لٹا لٹا گے کا کاٹ
26	Rome was not build in a day.	سیر کا پھل میٹھا نہیں ہوتا ہے
27	Might is right.	جیسا منہ وہی چپیر
28	Whistling maid and crowning hen are neither fit good nor men.	تعماریں نہیں لڑنا
29	Long looked for comes at least.	اپنی گل میں کتا بھی تیر ہوئی ہے
30	Like dog like stick.	بھلیوں کا لٹا
31	Inquiring after one's health.	تالی لٹا لٹا ہاتھ سے ہاتھ جنتی
32	Every dog is lion at home.	انہوں سے گزرا
33	To sing with joy	آم کے آفم کھیلوں سے دام
34	It takes two to make a quarrel.	عقد سے کا اٹھا آدھی
35	To fall in one's estimation.	بہتر جنتی
36	Money for money and interests besides.	نہ پادہ لڑی جنتی
37	Man of word.	ظرف بڑی بڑی بلو ہے
38	Full stop.	لگا دست
39	Too bad.	صاف صاف کہنا
40	Th owe is woe.	نہیم جنتی ظرف جان
41	Bosom friend.	لٹا لٹا لٹا لٹا ہے
42	To call a spade a spade.	جیسا بات ہے
43	A little knowledge is a dangerous thing.	عقل سے تیر
44	Red handed.	
45	Funnily enough.	
46	Below the mark.	

To give a flat denial.	دروغوں کے جواب دینا
A heavenly Voice.	عینی آواز
To prevail calmness.	مضامنا چھانا
No man's land.	علاقہ غیر
To take revenge.	بلا لہ لینا
To quarrel over.	جھگڑا کرنا
To redeem.	بخارت دلانا
To rage at.	سوزت و غصہ میں پھونا
To reduce.	خاتمہ کرنا
To remunerate.	معمولہ دینا
Repent of	توبہ کرنا
To retaliate	تبادلہ لینا
To rise against.	اٹھ اڑنا
To show off.	دکھانا
To shrink from.	سکھنا
To discriminate between.	تفویض کرنا
To dissuade from	باز رکھنا
To felicitate on.	مبارکباد دینا
To flare up.	بھڑک اٹھنا
To jeer at.	تسخیر کرنا
Knock about.	بجبت تمام کرنا
Pine away.	تھلنا
To pester	تذنب کرنا
To pounce upon	دبوتج لینا
To spend lavishly.	غفلت سے خرچ کرنا
To pray for a boon.	مترادہ مانگنا
To chew a twig.	مسواک کرنا
To glance over.	سرسری نظر دوڑانا
Fair and square.	دیانہ تراپ
To get into hot water.	مشکل میں پھنسنا
Heads I win tails you lose.	پہلو پر جیت
Upon my honour.	خدا کی قسم
To compete.	مقابلہ کرنا
To concede.	تسلیم کرنا
To bud and blossom.	پھول لگانا
Hard hearted	پتھر دل
To lose one's all wits.	چھال چھوڑ کر جاننا
To become accustomed	جھمکا کرنا
French leave.	بلا اذیت سے خدمت
To say in one's face.	مندانہ پیر کرنا
To stand on legs.	سیدھ بننا
To be a prattle	جھانگ پھیرنا
Word painting	رعبا و رعبا
Half cooked and half ripped.	چھانچھا
To reason with.	مجتہد کرنا
To range about.	غصہ سے گفتگو کرنا
To refer to.	حوالہ دینا

94	Reflect on.		غور و فکر کرنا
95	To reprimand for.	(216)	ذات دہرا کرنا
96	Reproach for		علاوت کرنا
97	To root up.		بیخ کن کرنا
98	To shudder at.		حرفہ سے کانپنا
99	To side with.		سہا کرنا
100	To dwell at.		سکونت کرنا
101	Eject from		بے دخل کرنا
102	To grapple with.		مقابلہ کرنا
103	To gumble at.		بُرور کرنا
104	To jest at		مناظر کرنا
105	Lean against.		سہارا لینا
106	To pine for.		مخمر کرنا
107	To pit against.		مقابلہ کرنا
108	Prejudice against.		تعمد کرنا
109	To preserve from.		محفوظ رکھنا
110	Lanes and Alleys.		گلی کوچے
111	To clapse the time.		وقت گزارنا
112	On the verge of.		دکھانگی
113	A burning question.		ایم نترین سدا
114	Through thick and thin.		خوشی و غم میں
115	In hot haste.		اخر انفری میں
116	To concentrate on.		مکمل توجہ دینا
117	To condescend to.		التفات کرنا
118	To give one a leg up.		سہارا دینا
119	To set one on one's leg.		کسی کی سہالی ملانا
120	Wear and tear.		لوسٹ پھوٹ
121	Blood thirsty.		خون کا پیاسا
122	Under the thumb of wife.		گھوڑے کا غلام
123	Hale and healthy.		چاب و جوان
124	To learn up rule.		رٹا لگانا
125	Endowed with a competent authority.		بااختیار ہونا
126	To blow a horn.		فہور ہونا
127	To mar the future		عاقبت تباہ کرنا
128	To poison one's ear.		کارن بھرنے
129	While life remains.		تمام عمر
130	The recompense for.		تلدی کرنا
131	To reckon with.		قابل ذکر ہونا
132	To refrain from.		باز رکھنا
133	To reign over.		خدا کی سرکرتنا
134	Required for		ازم ہونا
135	To rescue from.		بھانا
136	To rule out.		خاندراج کرنا
137	To scoff at.		مخو کرنا
138	To sleer at.		مقاومت کا اظہار کرنا
139	To speculate on.		فہاس کرنا
140	To enlist in.		جہتی ہونا